



سوال

(696) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حلیے

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

آپ سے میں نے کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حلیے کے متعلق وضاحت مطلوب ہے۔ لہذا حوالہ جات درج ذیل ہیں :

1 کتاب بدء الخلق ص: ۱۰۱ ۲۵۹ ایک حدیث ہے۔

2 کتاب الانبیاء ص: ۱۰۱ ۲۸۱ دو احادیث ہیں۔

3 کتاب الانبیاء ص: ۱۰۱ ۲۸۹ دو احادیث ہیں۔

یہ حوالہ جات درسی بخاری کے ہیں۔

نوٹ: ... ان احادیث میں موسیٰ علیہ السلام کے بھی دو حلیے ثابت ہوتے ہیں۔ اگر لغوی بحث ہو تو براہ کرم کتاب کا حوالہ اور صفحہ نمبر بھی لکھ دیں۔ (خاور رشید، لاہور)

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

الحمد للہ، والصلوة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

آپ نے مسیح عیسیٰ علیہ السلام کے حلیے سے تعلق رکھنے والی احادیث کی صحیح بخاری سے نشاندہی فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔

1... کتاب بدء الخلق (۱) ۲۵۹) عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں الفاظ ہیں: ((وَرَأَيْتُ عَيْسَى رَجُلًا مَرْبُوعًا مَرْبُوعًا نَخْلِقُ إِلَى النُّخْرَةِ وَالْبَيَاضِ سَبْطَ الرَّاسِ)) [”میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تھا درمیانہ قد، میانہ جسم، رنگ سرخی اور سفیدی لیے ہوئے اور سر کے بال سیدھے تھے۔“]

2... کتاب الانبیاء (۱) ۲۸۱) ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں الفاظ ہیں: ((وَرَأَيْتُ عَيْسَى فَإِذَا هُوَ رَجُلٌ رَجُلٌ أَحْمَرٌ كَأَنَّهَا خَرَجَ مِنْ دِيْنَسٍ)) اور عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں الفاظ ہیں: ((وَقَالَ: عَيْسَى جَعْدٌ مَرْبُوعٌ)) [”اور میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا وہ میانہ قد اور نہایت سرخ و سفید رنگ والے تھے ایسے تروتازہ اور پاک و صاف کہ معلوم ہوتا تھا کہ ابھی غسل خانہ سے نکلے ہیں اور فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام گھنگھریالے بال والے درمیانہ قد کے تھے۔“]

3... کتاب الانبیاء (۱) ۲۸۹) مجاہد عن ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں الفاظ ہیں: ((فَأَنَّ عَيْسَى فَأَخْرَجَهُ عَرِيضُ الصَّنَدِرِ)) [”عیسیٰ علیہ السلام نہایت سرخ گھنگھریالے بالوں

